

DGR-91-22

گروپ : پہلا

ہدایات: ہر سوال کے چار گنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جو اپنی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق انتخاب کریں اور  
مارکریا جائیں سے ہر درجے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا

سوال نمبر 1

Lowest form of 75:95 is	75:95 کی آسان شکل ہے	(1)
Zakat is deducted at the rate of	زکوٰۃ کی کوئی کس شرح سے ہوتی ہے؟	(2)
Loss is there when	نقصان ہوتا ہے اگر	(3)
The return earned by the bank on loan is named as	قرض دینے پر جو رقم واپس حاصل کرتا ہے	(4)
The tax charged on all the taxable income is called	وہ ٹیکس جو تمام قابل ٹیکس آمدنی پر لگایا جاتا ہے	(5)
$\sqrt{\sqrt{2}} = ?$	$\sqrt{\sqrt{2}} = ?$	(6)
8 <sub>6</sub> of 3, 7, 11 _____ is	_____ کی 3, 7, 11 8 <sub>6</sub>	(7)
The perpendicular distance of a point from X-axis is	کسی نقطہ کا X-محور سے عمودی فاصلہ کہلاتا ہے	(8)
$H = \frac{n}{\sum(\frac{1}{x})}$ is called	$H = \frac{n}{\sum(\frac{1}{x})}$ کہلاتا ہے	(9)
For $y=2$ in $2x=y-6$ , we have $x=?$	$x=?$ سے $y=2$ رکھتے ہیں	(10)
In $4^5$ , 4 is called	$4^5$ میں 4 کو کیا کہتے ہیں؟	(11)
G.M between -3 and -12 is	-3 اور -12 کے درمیان ضربی اوسط کیا ہے؟	(12)
In a proportion $a:b::c:d$ , a and d are called	$a:b::c:d$ کی تناسب میں a اور d کو کیا کہتے ہیں؟	(13)
The share of a widow in inheritance (in the presence of children) is	بچہ کا وراثت ہائیداد میں (اولاد کی موجودگی میں) کتنا حصہ ہوگا؟	(14)
For any two sets A and B, $A \cup B = B \cup A$ is called	دو سیٹوں A اور B کے لیے $A \cup B = B \cup A$ کہلاتا ہے	(15)
Commutative law	تبادلہ	(D)
Intersection of sets	سیٹوں کا تقاطع	(C)
De-Morgan's law	ڈی مورگن کا قانون	(B)
Associative law	تلازم	(A)

وقت = 2 گھنٹے 10 منٹ

کل نمبر = 60

حصہ انتہائی

جزل ریاضی GENERAL MATHEMATICS

حصہ اول

D9K-4-22

گروپ: پہلا

Q.NO. 2 Write Six short answers to the following

2×6 = 12

سوال نمبر 2۔ درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

Express $87\frac{1}{2}\%$ as fraction in its lowest form	نی صد کو سر کی آسان ترین شکل میں لکھیے $87\frac{1}{2}\%$	i
Define inverse proportion	تکاب مساوی کی تعریف کیجئے	ii
Express this ratio in simplest form $\frac{12}{10} : \frac{28}{10}$	اس نسبت کو آسان شکل میں لکھیے $\frac{12}{10} : \frac{28}{10}$	iii
Calculate the amount of Zakat on 10 tola gold if its rate is Rs 40,000 per tola	دس تولہ سونے پر ذکا کا معلوم کیجئے اگر اس کی قیمت 40,000 روپے فی تولہ ہو	iv
Define inheritance	وراثت (ترک) سے کیا مراد ہے؟	v
Find SP, when CP = Rs 950, Profit = 10 %	قیمت فروخت معلوم کیجئے جبکہ قیمت خرید = 950 روپے اور منافع = 10 %	vi
Define loss. Write its percent formula	فقدان کی تعریف کیجئے نیز نقصان فی صد کا کلیہ تحریر کیجئے	vii
Define marked price. How it is represented?	درج شدہ قیمت کی تعریف کیجئے۔ اس کو کیسے ظاہر کیا جاتا ہے؟	viii
Define Saving Account	سیونگ اکاؤنٹ کی تعریف کیجئے	ix

Q.NO. 3 Write Six short answers to the following

2×6 = 12

سوال نمبر 3۔ درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

What sum would borrow in Rs 174 as mark up at 5 % in 4 years	اگر چار سال کی مدت کے لیے 5 % کی شرح سے مارک اپ 174 روپے ہو تو ایک شخص کو کتنی رقم ادا کر لینا ہوگی	i
Define tax	ٹیکس کی تعریف کیجئے	ii
A computer price is Rs 34800 inclusive of 16 % sales tax. What is the original price of the computer	ایک کمپیوٹر کی قیمت 34800 روپے ہے جس میں 16 % سیلز ٹیکس شامل ہے۔ کمپیوٹر کی اصل قیمت کیا ہے؟	iii
Simplify $5\sqrt{4} \times 5\sqrt{128}$	مختصر کیجئے $5\sqrt{4} \times 5\sqrt{128}$	iv
Write the base and exponent in $(x-2)^3$	$(x-2)^3$ میں اساس اور قوت لٹائیے	v
Write in the decimal form $1.345 \times 10^{-3}$	اعشاریہ کی شکل میں لکھیے $1.345 \times 10^{-3}$	vi
Write first three terms if $a_n = 3n - 5$	پہلی تین رقم لکھیے اگر $a_n = 3n - 5$	vii
Find A.M $x^2 + x + 1$ , $x^2 - x + 1$	جہی وسط معلوم کیجئے $x^2 + x + 1$ , $x^2 - x + 1$	viii
If the A.M between a and 16 is 24 then find the value of 'a'	اگر a اور 16 کا جہی وسط 24 ہو تو 'a' کی قیمت معلوم کیجئے	ix

Q.NO. 4 Write Six short answers to the following

2×6 = 12

سوال نمبر 4۔ درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

Find $A \cap C$ if $A = \{1,4,7,8\}$ and $C = \{3,4,5,7\}$	$A \cap C$ معلوم کیجئے اگر $A = \{1,4,7,8\}$ اور $C = \{3,4,5,7\}$	i
If $U = \{7,8,9,10,11,12,13,14\}$ and $B = \{7,8,11,12\}$ then find $B^c$	اگر $U = \{7,8,9,10,11,12,13,14\}$ اور $B = \{7,8,11,12\}$ ہو تو $B^c$ معلوم کیجئے	ii
If $X = \{0,3,5\}$ and $Y = \{2,4,8\}$ then write two binary relations in $X \times Y$	اگر $X = \{0,3,5\}$ اور $Y = \{2,4,8\}$ ہو تو $X \times Y$ میں دو دہائی تعلقات لکھیے	iii
Represent the point D (6,-3) on graph paper	نقطہ D (6,-3) کو گراف پر ظاہر کیجئے	iv
Using formula convert $86^\circ\text{C}$ into $^\circ\text{F}$ if $^\circ\text{F} = \left(\frac{9}{5} \times ^\circ\text{C}\right) + 32$	فارمولہ کا استعمال کرتے ہوئے $86^\circ\text{C}$ کو $^\circ\text{F}$ میں تبدیل کیجئے اگر $^\circ\text{F} = \left(\frac{9}{5} \times ^\circ\text{C}\right) + 32$	v
Draw the graph of $y = 3x$	$y = 3x$ کا گراف کیجئے	vi
Find geometric mean of 2, 4 and 8	2, 4 اور 8 کا جہی وسط معلوم کیجئے	vii
For the data set 6, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 5 find the median	مواد کے میڈن 6, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 5 کا وسطانیہ معلوم کیجئے	viii
Define Range	سعت کی تعریف کیجئے	ix

(ورق لپیٹئے)

NOTE : Attempt any THREE questions from this part

8×3 = 24

نوٹ: اس حصہ میں سے کوئی تین سوال حل کیجئے

D91K-91-22

<p>سوال نمبر 5-(A) 14 گاؤں 63 کلوگرام چارو 18 دن میں کھاتی ہیں تو 28 دن میں 770 کلوگرام چارو کتنی گاؤں کھا سکیں گی؟</p> <p>14 cows consume 63 kg. of hay in 18 days. How many cows will eat 770 kg. of hay in 28 days at same rate</p> <p>سوال نمبر 6-(A) تین شراکت داروں کی ایک کاروبار میں نسبت 2:3:5 ہے اگر انہیں کاروبار میں 1000000 روپے کا نقصان ہوا تو ہر ایک کا نقصان میں حصہ معلوم کیجئے</p> <p>The shares of three partners in a business are in Ratio 2:3:5. If they suffered a loss of Rs 1000000 in the business. What was the share of each individual in the loss incurred?</p>	<p>(A) سوال نمبر 5-(A)</p> <p>(B) سوال نمبر 6-(A)</p>
<p>اگر ہم نے 4800000 روپے مالیت کی جائیداد چھوڑی اس نے اپنے چھ بچے ایک بیوہ تین بیٹے اور چار بیٹیاں چھوڑیں۔ جائیداد میں ہر ایک کے حصہ کی مالیت معلوم کیجئے</p> <p>Akram left a property of worth Rs 4800000. He left behind a widow, three sons and four daughters. Calculate the share of each</p> <p>سوال نمبر 7-(A) اگر ایک ایئر کنڈیشنر کی قیمت 40000 روپے ہو تو اس پر 16% کی شرح سے سٹیکس معلوم کیجئے نیز ایئر کنڈیشنر کی قیمت بمقام سٹیکس بھی معلوم کیجئے</p> <p>If the price of an air conditioner is Rs 40000. Then work out the amount of sales tax on it at the rate of 16%. Also calculate the price of an air conditioner with sales tax</p>	<p>(B) سوال نمبر 7-(A)</p>
<p>سوال نمبر 8-(A) دو اعداد کا جمعی وسط 5 ہے جبکہ ان کا مثبت ضربی وسط 4 ہے۔ اعداد معلوم کیجئے</p> <p>The A.M between two numbers is 5 and their positive G.M is 4. Find the numbers</p> <p>سوال نمبر 9-(A) مساوات <math>y = 2x - 3</math> کا گراف کیجئے</p> <p>Draw graph of <math>y = 2x - 3</math></p>	<p>(B) سوال نمبر 8-(A)</p> <p>(B) سوال نمبر 9-(A)</p>
<p>اگر سرمایہ % <math>3\frac{2}{3}</math> سالانہ سادہ شرح مناج سے لگایا جائے تو کتنے عرصہ میں 9400 روپے 10951 روپے ہو جائیں گے</p> <p>How much time a sum of Rs 9400 will take to become Rs 10951. If the same is invested at the rate of <math>3\frac{2}{3}</math> % p.a</p> <p>اگر <math>U = \{4, 6, 8, 9, 10\}</math>, <math>A = \{4, 6\}</math> اور <math>B = \{6, 8, 9\}</math> تو ثابت کیجئے <math>(A \cup B)^c = A^c \cap B^c</math></p> <p>If <math>U = \{4, 6, 8, 9, 10\}</math>, <math>A = \{4, 6\}</math> and <math>B = \{6, 8, 9\}</math> then prove that <math>(A \cup B)^c = A^c \cap B^c</math></p> <p>مواد 2, 3, 6, 8, 11 کا معیاری انحراف معلوم کیجئے</p> <p>Find the standard deviation of the values 2, 3, 6, 8, 11</p>	<p>(B) سوال نمبر 8-(A)</p> <p>(B) سوال نمبر 9-(A)</p>



ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جو اپنی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا

D9K-92-22

سوال نمبر 1

- The company undertaking the act of insurance is called \_\_\_\_\_ کہتے ہیں (1)  
 Insurance policy انشورنس پالیسی (D) Insurance انشورنس (C) Insured انشورڈ (B) Insurer انشورر (A)
- Taxes of the form of duties motor vehicle taxes are called \_\_\_\_\_ کہتے (2)  
 Income tax انکم ٹیکس (D) Property tax پراپرٹی ٹیکس (C) Indirect tax غیرمستقیم ٹیکس (B) Direct tax براہ راست ٹیکس (A)
- The logarithm calculated to the base "10" is called \_\_\_\_\_ (3)  
 Natural number قدرتی عدد (D) Characteristic خاصہ (C) Common logarithm کومن لوگارٹھم (B) Mantissa مینٹیسیا (A)
- For 2, 6, 11, 17, .....  $a_5$  is \_\_\_\_\_ (4)  
 22 (D) 21 (C) 30 (B) 24 (A)
- For any two sets A and B,  $A \cup B = B \cup A$  is called \_\_\_\_\_ (5)  
 De-Morgan's law ڈی مورگن کا قانون (C) Associative law تلامم (B) Commutative law خاصیت مبادلہ (A) Complement of two sets سیٹوں کا قاطع (D)
- The perpendicular distance of a point from X-axis is called \_\_\_\_\_ (6)  
 Ordinate آرڈینیٹ (D) Abscissa ابسسیسا (C) Origin مبدا (B) Horizontal line افقی لائن (A)
- The summary statistics which measure the middle (center) of the data is called \_\_\_\_\_ (7)  
 All of these یہ سب (D) Median وسطانہ (C) Mode مادہ (B) Mean اوسط (A)
- $H = \frac{n}{\sum \left(\frac{1}{x}\right)}$  is called \_\_\_\_\_ (8)  
 Arithmetic mean حسابی اوسط (D) Mean اوسط (C) Mode مادہ (B) Harmonic mean ہارمونک اوسط (A)
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$  is called \_\_\_\_\_ (9)  
 De-Morgan's law ڈی مورگن کا قانون (C) Associative law تلامم (B) Commutative law خاصیت مبادلہ (A) Intersection of sets سیٹوں کا قاطع (D)
- $a_5$  of 2, 6, 18, ..... is \_\_\_\_\_ (10)  
 30 (D) 162 (C) 161 (B) 160 (A)
- In  $a^n$ , n is called \_\_\_\_\_ (11)  
 Base اساس (D) Exponent قوت نما (C) Radicand رادیکانڈ (B) Radical جذر (A)
- Lowest form of 75 : 95 is \_\_\_\_\_ (12)  
 17 : 15 (D) 19 : 15 (C) 15 : 19 (B) 15 : 17 (A)
- $\frac{1}{3}$  in terms of percentage is \_\_\_\_\_ (13)  
 33  $\frac{1}{3}$  % (D) 33 % (C) 1 % (B) 3 % (A)
- Zakat is deducted at a rate of \_\_\_\_\_ (14)  
 5.5 % (D) 4.5 % (C) 3.5 % (B) 2.5 % (A)
- Profit % = ? where  $SP > CP$  \_\_\_\_\_ (15)  
 $\frac{100 \times SP}{100 + \text{Profit \%}}$  (D)  $\frac{CP \times \text{Profit \%}}{100}$  (C)  $\frac{\text{Profit \%}}{CP} \times 100$  (B)  $\frac{\text{Profit \%}}{\text{تبت خرید}}$  (A)

وقت = 2 گھنٹے 10 منٹ

کل نمبر = 60

حصہ انشائیہ

GENERAL MATHEMATICS جزل ریاضی

حصہ اول

D9K-92-22

گروپ: دوسرا

سوال نمبر 2۔ درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

2×6 = 12

Q.NO. 2 Write Six short answers to the following

Express the fraction $9/20$ as percentage	کسر $9/20$ کو فی صد میں تبدیل کیجئے	i
Express the fraction $\frac{2}{5} : \frac{1}{3}$ to its lowest form	نسبت $\frac{2}{5} : \frac{1}{3}$ کو آسان شکل میں لکھیے	ii
What is meant by Extremes and Means ?	طرفین اور وسطین سے کیا مراد ہے؟	iii
Calculate Ushr on a rice crop produced by natural resources amounting to Rs 600000	قدرتی وسائل سے پیدا شدہ پاول کی فصل مالیتی 600000 روپے پر عشر معلوم کیجئے	iv
Calculate Zakat on gold amounting Rs 1500000	1500000 روپے مالیت سونے پر زکوٰۃ معلوم کیجئے	v
Find CP when SP = Rs 100, Profit = $33\frac{1}{2}\%$	قیمت خرید معلوم کیجئے جبکہ % $33\frac{1}{2}$ منافع، روپے 100 = قیمت فروخت	vi
Find SP when MP = Rs 2760, Discount = 5 %	قیمت فروخت معلوم کیجئے جبکہ % 5 چھوٹ، روپے 2760 = درج شدہ قیمت	vii
What is meant by discount ?	چھوٹ سے کیا مراد ہے؟	viii
What is meant by Current Account ?	کرنٹ اکاؤنٹ سے کیا مراد ہے؟	ix

Q.NO. 3 Write Six short answers to the following

2×6 = 12

سوال نمبر 3۔ درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

Convert 50 Pounds to Pk. Rupees	(Rate of Pound = Rs 129.4542) 50 پاؤنڈز کو پاکستانی روپے میں تبدیل کیجئے	i
Define Excise duty	ایکسائز ڈیوٹی کی تعریف لکھیے	ii
A computer price is Rs 34800 inclusive of 16 % sales tax. What is the original price of the computer	ایک کمپیوٹر کی قیمت 34800 روپے ہے جس میں % 16 سٹیکس شامل ہے۔ کمپیوٹر کی اصل قیمت کیا ہے؟	iii
Simplify $\sqrt[3]{8a^9}$	مختصر کیجئے $\sqrt[3]{8a^9}$	iv
Write in scientific notation 0.051	سائنسی تزئیم میں لکھیے 0.051	v
If $\log x = 0.1597$ . Find the value of x	اگر $\log x = 0.1597$ ہو تو x کی قیمت معلوم کیجئے	vi
Write the first three terms of $a_n = 3n + 5$	$a_n = 3n + 5$ کی پہلی تین رقوم لکھیے	vii
Find A.M between $2\sqrt{5}$ and $6\sqrt{5}$	$2\sqrt{5}$ اور $6\sqrt{5}$ میں جہتی وسط معلوم کیجئے	viii
Find G.M between 4 and 9	4 اور 9 کے درمیان ضربی وسط معلوم کیجئے	ix

Q.NO. 4 Write Six short answers to the following

2×6 = 12

سوال نمبر 4۔ درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

Define union of sets	سیٹوں کے یونین کی تعریف کیجئے	i
If $A = \{2,3,5,7,11\}$ , $B = \{1,3,5,7,9\}$ Find $A \cap B$	اگر $A = \{2,3,5,7,11\}$ اور $B = \{1,3,5,7,9\}$ ہو تو $A \cap B$ معلوم کیجئے	ii
If $U = \{1,2,3,4,5,6,7\}$ and $A = \{3,4,5\}$ Find $A^c$	اگر $U = \{1,2,3,4,5,6,7\}$ اور $A = \{3,4,5\}$ ہو تو $A^c$ معلوم کیجئے	iii
Draw the graph of an equation $x = -2$	مساوات $x = -2$ کا گراف کیجئے	iv
Represent the point $B(3, 2)$ on the graph	دینے والے نقطہ $B(3, 2)$ کو گراف پر ظاہر کیجئے	v
Write formula to convert Celsius ( $^{\circ}C$ ) into Fahrenheit ( $^{\circ}F$ )	سنتی گریڈ ( $^{\circ}C$ ) کو فارن ہائیٹ ( $^{\circ}F$ ) میں تبدیل کرنے کا فارمولا لکھیے	vi
Define frequency	تعداد کی تعریف کیجئے	vii
Find median 6, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 5	وسطیہ معلوم کیجئے 6, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 5	viii
Find mode 4, 6, 7, 4, 8, 9, 7, 10	ماہ معلوم کیجئے 4, 6, 7, 4, 8, 9, 7, 10	ix

(درج لکھیے)



NOTE : Attempt any THREE questions from this part

8×3 = 24

نوٹ: اس حصہ میں سے کوئی تین سوال حل کیجیے

D4K-42-22

<p>ایک ہاسٹل میں 12 آدمیوں کا 28 دن کا خرچہ 6720 روپے ہو تو 8 آدمیوں کا 14 دن رہنے کے لیے کتنا خرچ آئے گا؟</p> <p>If a stay of 12 men for 28 days in a hostel cost Rs 6720. Find the cost for the stay of 8 men for 14 days in a hostel</p> <p>(A) سوال نمبر 5-</p>	<p>(B) اگر ایک شخص نے 750000 روپے مالیت کی جائیداد چھوڑی ہو تو اس کی ایک بیوہ دو بیٹوں اور ایک بیٹی میں ہر ایک کی جائیداد کی مالیت معلوم کیجئے</p> <p>Work out the share of each, if the inherited property amounting to Rs 750000 is left by a deceased, who also left a widow, two sons and one daughter</p>										
<p>اگر ایک ہیٹر پر درج شدہ قیمت پر 15% فی صد چھوٹ کی اجازت ہو جبکہ ابھی بھی 2% فی صد بلع ہو تو بلع فی صد کیا ہوگا؟ اگر اسے درج شدہ قیمت پر بیچا جائے</p> <p>If 15% discount on MP of a heater is allowed and still makes a profit of 2%. If it is sold on MP, What is profit percentage?</p> <p>(A) سوال نمبر 6-</p> <p>جاوید نے اپنی کار کے لیے 8,50,000 روپے کی انشورنس پالیسی 3 سال کے لیے 4.25% سالانہ پیجیم پر خریدی۔ وہ کل کتنی رقم ادا کرے گا؟ اگر اس نے اس مدت میں نقصان کا کٹہہ نہ کیا ہو جبکہ قیمت میں کمی کی شرح 10% ہو</p> <p>Mr. Javed bought an insurance policy against his car worth 8,50,000 @ 4.25% for 3 years. What total amount will be pay as premium, if he had not claimed and damage during the period? Where depreciation is 10%</p>	<p>(B) ایک گھر اور ایک زمین سے سالانہ آمدنی بالترتیب 15,00,000 روپے اور 20,00,000 روپے ہے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک پر 16% شرح سے پر اپنی ٹیکس معلوم کیجئے</p> <p>The annual price of house and price of land is Rs 15,00,000 and Rs 20,00,000 respectively. Find the property tax on each of these two at the rate of 16%</p>										
<p>ثبت کیجئے <math>3 \log 4 + 2 \log 5 - \frac{1}{3} \log 64 - \frac{1}{2} \log 16 = 2</math></p> <p>Prove that <math>3 \log 4 + 2 \log 5 - \frac{1}{3} \log 64 - \frac{1}{2} \log 16 = 2</math></p> <p>(A) سوال نمبر 7-</p>	<p>(B) 1 اور 16 کے درمیان 3 ضربی وسط کیجئے</p> <p>Insert three G.M.s between 1 and 16</p>										
<p>اگر <math>X = \{0, 3, 5\}</math> اور <math>Y = \{2, 4, 8\}</math> میں چار ثنائی روابط لکھیے</p> <p>If <math>X = \{0, 3, 5\}</math> and <math>Y = \{2, 4, 8\}</math> then establish any four binary relations in <math>X \times Y</math></p> <p>(A) سوال نمبر 8-</p>	<p>(B) درج ذیل نقاط کی گراف پیپر پر منسلک بنائیے</p> <p>Sketch the figure of the given points on the graph paper <math>A(5, 2), B(-6, -3), C(3, 5)</math></p>										
<p>درج ذیل تعددی مواد کا ضربی اوسط معلوم کیجئے</p> <p>Find geometric mean for the following data of frequency table</p> <table border="1" data-bbox="798 1859 1085 1971"> <tbody> <tr> <td>x</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(A) سوال نمبر 9-</p>	x	1	2	3	4	f	2	3	4	1	<p>(B) درج ذیل تعددی مواد کا ضربی اوسط معلوم کیجئے</p>
x	1	2	3	4							
f	2	3	4	1							